



سوال

صحابی کی تعریف

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

صحابی کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میری ایک رشتہ دار سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی نہیں تھے کیونکہ وہ تو ابھی بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو ابھی بلوغت تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ اس بات میں کتنا وزن ہے اور کن کن محدثین نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ جواب حوالہ جات کے ساتھ دیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب "الإصابة فی تمييز الصحابة" میں "صحابی" کی تعریف یوں کی ہے:

الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو مؤمرا به، ومات علی الإسلام

صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔

پھر درج بالا تعریف کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فیدخل فیمن لقیہ من طاعت مجالسہ لہ أو حضرت، أو من روی عنہ أو لم یرو، ومن عزامعہ أو لم یعز، ومن رآہ رویہ یولولم یجالسہ، أو من لم یرہ لعارضن کالحمی، أو سخرج بقتیہ الایمان من لقیہ کافر أو لولوا سلم بعد ذلک اذ لم یجتمع بہ مرۃ آخری، الإصابة فی تمييز الصحابة 1/1158

اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو۔۔۔

• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاکہ وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کو مانتا تھا

• پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آگئی

• خواہ وہ زیادہ عرصہ تک رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت میں رہا یا کچھ عرصہ کے لیے



- خواہ اس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو
- خواہ وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہو یا نہ ہو
- خواہ اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا (بصارت نہ ہونے کے سبب) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دیدار نہ کر سکا ہو

ہر دو صورت میں وہ "صحابی رسول" شمار ہوگا۔

اور ایسا شخص "صحابی" متصور نہیں ہوگا جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو۔

مذکورہ بالا تعریف کی رو سے سیدنا حسین اور سیدنا حسن بھی صحابی ہیں۔ اور آپ کے رشتہ دار کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

حداماعمدی والنداعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ